

## سٹی آف برامپٹن سردی کے موسم کی شدید صورتحال کے لیے تیار ہو رہا ہے

برامپٹن، آن (16 جنوری 2020) – ہفتے کے اختتام پر برامپٹن میں انتہائی کم درجہ حرارت اور برفباری کی پیش گوئی کے ساتھ، سٹی رہائشیوں کو یاددہانی کروا رہا ہے کہ سردیوں کے لیے تیار ہونا ایک مشترکہ کوشش ہے اور تمام لوگوں کی مدد سے یہ موسم سب کے لیے محفوظ تر ہو سکتے ہیں۔

### سردی کے عمل درآمد

- برف باری کے اختتام کے بعد عملے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر تمام سڑکوں، سائیڈ واکس، ٹرانزٹ سٹاپس، کراس واکس اور تفریحی طور پر پیدل چلنے کے راستوں کو بحال کر دے۔
- پچھلے سال کونسل نے برامپٹن کے سرد موسم کے عمل درآمد میں بہتریوں کی منظوری دی تھی، جس میں مقامی سڑکوں پر برف ہٹانے کی خدمات شروع کرنے کے لیے برف کی مقدار کو 7.5 سنٹی میٹر سے کم کر کے 5.0 سنٹی میٹر کرنا شامل تھا، یعنی شدید موسم کی صورت میں عملے برف ہٹانے کے لیے جلدی نکلیں گے۔
- سٹی کے حالیہ طور پر شروع کردہ پلو ٹریکر کے ذریعے [www.brampton.ca/snow](http://www.brampton.ca/snow) پر دیکھیں کہ کون سی سڑکوں اور سائیڈ واکس کو صاف کر دیا گیا ہے۔

اگر موسم شدید ہو، تو سڑکوں کو کھولنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ہم ایسے حالات میں اپنے رہائشیوں کے تعاون اور صبر کو سراہتے ہیں۔

### رہائشیوں کے لیے یاددہانیاں

- برفباری کے بعد اگلے دن صبح 11 بجے سے پہلے سائیڈ واکس پر سے انجماد، برف اور پگھلی ہوئی برف کو صاف کریں۔
- سڑکوں پر پارکنگ کی اجازت نہیں ہے اور سردی کے شدید حالات میں ان قوانین پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ برائے مہربانی گاڑیوں کو ہٹا لیں، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ پلو اور ہنگامی گاڑیاں بحفاظت گزر سکیں۔
- بے شک اگر آپ کے پاس سڑک پر پارکنگ کا پرمٹ ہو، یہ برفباری کے دوران قابل قبول نہیں ہے۔
- یقینی بنائیں کہ آپ کی گاڑی سائیڈ واک کو بند نہ کر رہی ہو اور نہ ہی سڑک پر باہر نکلی ہو۔ اپنی گاڑی کو اپنے ڈرائیو وے پر لے جائیں یا اپنی سائیڈ واک اور سڑک کے درمیان جگہ، اگر دستیاب ہو، پر افقی طور پر پارک کر دیں۔
- اگر برفباری کے ختم ہونے کے بعد 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہوں اور آپ کی سڑک کو ابھی بھی توجہ کی ضرورت ہو، تو 311 پر کال کر کے یا [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) پر آن لائن رابطہ کر کے سٹی کو اطلاع کریں۔
- اہل بزرگ افراد اور معذوریوں کے حامل رہائشیوں کے لیے برف ہٹانے کے لیے معاشی معاونت دستیاب ہے۔ مزید جانیں: <http://ow.ly/D2R050xgPq2>
- انتہائی شدید موسم میں باہر جاتے ہوئے اضافی حفاظتی تدابیر کریں۔ حفاظتی مشوروں کی مکمل فہرست کے لیے، ملاحظہ فرمائیں: <http://ow.ly/sXzo50xXv7B>

### تفریح

رجسٹر شدہ کلاسوں اور فوراً شرکت والے پروگراموں کے شیڈول کے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے برائے مہربانی اپنے مقامی تفریحی سنٹر سے رابطہ کریں یا [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) ملاحظہ فرمائیں۔

### اسکیٹنگ ٹریلز

گیج پارک اسکیٹنگ ٹریل، چنگواکوسی اسکیٹنگ ٹریل، گور میڈوز اسکیٹنگ رنک اور ماؤنٹ پلیزنٹ آؤٹ ڈور اسکیٹنگ رنک کے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے [www.brampton.ca/skating](http://www.brampton.ca/skating) ملاحظہ فرمائیں۔

### ٹرانزٹ

سردی کسی شدید صورتحال میں، برامپٹن ٹرانزٹ کے کچھ راستے موسمی حالات کی وجہ سے بند ہو سکتے ہیں۔ برائے مہربانی سفر کے لیے اضافی وقت رکھ کر آئیں۔ تازہ ترین معلومات کے لیے [BramptonTransit@](mailto:BramptonTransit@) کو ٹوئٹر پر فالو کریں یا 905.874.2999 پر کال کریں۔

### برف ہٹانے کے متعلق تازہ ترین خبریں اور معلومات

- برف ہٹانے کے متعلق تازہ ترین خبروں کے لیے [www.brampton.ca/snow](http://www.brampton.ca/snow) ملاحظہ کریں یا سٹی آف برامپٹن کو ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔
- سردی میں محفوظ رہنے کے متعلق مشوروں کے لیے [www.brampton.ca/prepared](http://www.brampton.ca/prepared) ملاحظہ کریں۔
- سردی کے عمل درآمد کے حوالے سے ہنگامی صورتحالوں کے لیے 311 پر کال کریں، [ای میل کریں](mailto:311@brampton.ca) یا برامپٹن 311 کی نئی موبائل ایپ (گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب) اور [ویب سائٹ](http://www.brampton.ca/311) پر رابطہ کریں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)